


The Salam

Transliteration of Alahazrat's Muṣṭafā Jān e Raḥmat pe Lakhoñ Salām



IMAM AHMAD RIDA KHAN AL-BARAYLAWI

RIDAWI
رضا
PRESS

Transliteration of
THE SALAM



ALAHAZRAT~SERIES

The Salam

Transliteration of Alahazrat's Muṣṭafā Jān e Raḥmat pe Lakhoñ Salām

IMAM AHMAD RIDA KHAN AL-BARAYLAWI

(1272-1340 / 1856-1921)

Transliteration
Abu Hasan

RIDAWI
رضا
PRESS



The Salam of Alahazrat

Original Urdu Salām
Imam Ahmad Ridā Khān al-Baraylawi

Transliteration
Abu Hasan



Acknowledgements
Abu Nibras, Aqdas, Noori
and everyone who contributed to this book

Cover Image:
Imtiyaz Qadiri

Copyright © Ridawi Press
Jumādah al-Ākhirah 1438 / March 2017
Version 1.1

First Version: December 2015

feedback@ridawipress.org
copyright@ridawipress.org
complaints@ridawipress.org
admin@ridawipress.org

The translator can be contacted at:
abu.hasan@ridawipress.org

Please include the name of the book in the subject of your mail for specific queries or comments. Permission is hereby granted to reproduce or utilise this material in any form or by any means, electronic or otherwise, as long as the content remains unchanged. This book is also made freely available by Ridawi Press and can be downloaded from: www.ridawipress.org. Permission is granted to anyone to print this book for free distribution or for sale. Ridawi Press acknowledges that it costs money to print and distribute books, and it may therefore be necessary for publishers to recover this cost by selling it at a reasonable price. Ridawi Press does not benefit financially from the sale of these books, nor solicits any royalties. Permission is also granted to publishers to reprint in their own name provided the following notice is included in the colophon: "Reprinted with royalty-free permission from Ridawi Press".

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FOREWORD

The original plan was to release this *Salām* with translation and notes. But, as the translation is still not complete, we decided to release the transliteration as a separate work at this time.

Brother Aqdas has obtained the permission of Mawlānā Sayīd Noori of Raza Academy, to reproduce the original *Salām* in Urdu in this booklet. The *Salām* is extracted from *Ḩadāyiq e Bakhshish*, published by Raza Academy, Bombay, 1997.

wa billāhi't tawfiq.

Abu Hasan

12th Rabi' al-Awwal 1437

23rd December 2015



1. muşṭafā jān e raḥmat pey lākhoñ salām
shamá e bazm e hidāyat pey lākhoñ salām
2. mihr e charkh e nubuwwat pey raushan durūd
gul e bāgh e risālat pey lākhoñ salām
3. shahryār e iram tājdār e ḥaram
nau bahār e shafāát pey lākhoñ salām
4. shab e asrā ke dūlhā pey dāyim durūd
nawshah e bazm e jannat pey lākhoñ salām
5. ársh ki zeyb o zīnat pey árshī durūd
farsh kī ṭib o nuzhat pey lākhoñ salām
6. nūr e áyn e laṭāfat pe alṭaf durūd
zeyb o zayn e nazāfat pey lākhoñ salām
7. sarw e nāz e qidam maghz e rāz e ḥikam
yakka tāz e fazilat pey lākhoñ salām
8. nuqtah e sirr e waḥdat pey yaktā durūd
markaz e dawr e kasrat pey lākhoñ salām
9. şāḥib e raját e shams o shaqqu'l qamar
nāyib e dast e qudrat pey lākhoñ salām
10. jis ke zeyr e liwā ādam o man siwā
us sazā e siyādat pey lākhoñ salām

11. ársh taa farsh hai jis ke zeyr e nagīñ
us ki qāhir riyāsat pey lākhoñ salām
12. aşl e har būd o bahbūd, takhum e wujūd
qāsim e kanz e niýmat pey lākhoñ salām
13. fat̄ ī e bāb e nubuwat pey bey īhad durūd
khatm e dawr e risālat pey lākhoñ salām
14. sharq e anwār e qudrat pey nūrī durūd
fatq e az'hār e qurbat pey lākhoñ salām
15. bey sahīm o qasīm o ádīl o masīl
jawhar e fard e ízzat pey lākhoñ salām
16. sirr e ghayb e hidāyat pey ghaybī durūd
ítr e jayb e nihāyat pey lākhoñ salām
17. māh e lāhūt e khalwat pey lākhoñ durūd
shah e nāsūt e jalwat pey lākhoñ salām
18. kanz e har bey kas o bey nawā par durūd
ħirz e har rafta ṭāqat pey lākhoñ salām
19. partaw e ism e zāt e aħad par durūd
nuskha e jāmaýiyat pey lākhoñ salām
20. maṭlá e har sáādat pey as'ád durūd
maqṭá e har siyādat pey lākhoñ salām

21. khalq key dād ras sab ke fariyad ras
kahf e roz e müşibat pey lākhoñ salām
22. mujh sey bekas ki dawlat pey lākhoñ durūd
mujh sey bebas ki quwwat pey lākhoñ salām
23. shamá e bazm e danā hū mein gum kun ana
shar̄h e matn e huwiyyat pey lākhoñ salām
24. intahā e duyi ibtidā e yakī
jamá e tafrīq o kasrat pey lākhoñ salām
25. kasrat e baád e qillat pey aksar durūd
ízzat e búud e zillat pey lākhoñ salām
26. rabb e aálā ki niýmat pey aálā durūd
ḥaqq táälā ki minnat pey lākhoñ salām
27. hum ghariboñ key aāqā pey beyħad durūd
hum faqīroñ ki sarwat pey lākhoñ salām
28. farħat e jān e mu'min pey beyħad durūd
ghayż e qalb e zalālat pey lākhoñ salām
29. sabab e har sabab; muntahā e ḥalab
illat e jumla illat pey lākhoñ salām
30. maşdar e mažhariyyat pey aż'har durūd
mužhir e maşdariyyat pey lākhoñ salām

31. jis ke jalwey sey murjhāyi kaliyāñ khileñ
us gul e pāk e mañbat pey lākhoñ salām
32. qadd e bey saaya ke saaya e mar̄hamat
žill e mAMDūd ra'afat pey lākhoñ salām
33. ṭāyiran e quodus jis ki haiñ qumriyāñ
us sahī sarw e qāmat pey lākhoñ salām
34. waṣf jis kā hai aāyina e ḥaqq numā
us khudā sāz ṭalāt pey lākhoñ salām
35. jis key āagey sar e sarwarāñ kham raheñ
us sar e tāj e rifāt pey lākhoñ salām
36. woh karam kī ghata geysu e mushk sā
lakka e abr e ra'afat pey lākhoñ salām
37. laylatu'l qadr meiN maṭlāyi'l fajri ḥaqq
māñg kī istiqāmat pey lākhoñ salām
38. lakht lakht e dil e har jigar chāk sey
shāna karney kī ḥālat pey lākhoñ salām
39. dūr o nazdik key sun'ney wāley woh kān
kān e láal e karāmat pey lākhoñ salām
40. chashma e mihr meiñ mauj e nūr e jalāl
us rag e hāshmiyyat pey lākhoñ salām

41. jis key mātHEY shafaāt kā sehrā rahā
us jabīn e sāādat pey lākhoñ salām
42. jin ke sajdey ko mihrāb e káabah jhukī
un bhawoñ kī laṭāfat pey lākhoñ salām
43. un ki ānkhōñ pey woh saaya afgan mizha
zillah e qaṣr e rāhmat pey lākhoñ salām
44. ashkbāri e mizhgāñ pey barsey durūd
silk e durr e shafaāt pey lākhoñ salām
45. máani qad ra'ā maqṣad e mā ṭaghā
nargis e bāgh e qudrat pey lākhoñ salām
46. jis ṭaraf uṭh gayī dam meiñ dam aagayā
us nigāh e ínāyat pey lākhoñ salām
47. nīchi aānkhoñ ki sharm o ḥayā par durūd
uūnchi bīni ki rifāt pey lākhoñ salām
48. jin ke aāgey chirāg e qamar jhilmilāy
un ízāroñ ki ṭalāt pey lākhoñ salām
49. un ke khad ki suhūlat pey beyḥad durūd
un ke qad ki rashāqat pey lākhoñ salām
50. jis sey tārik dil jag-magāne lageñ
us chamak wāli rangat pey lākhoñ salām

51. chānd sey muñh pay tābāñ darakhshāñ durūd
namk āgīñ şabāhat pey lākhoñ salām
52. shabnam e bāgh e ḥaqq yáni rukh kā áraq
uski sach'chī barāqat pey lākhoñ salām
53. khaṭ ki gird e dahan woh dil ārā phaban
sabzah e nahr e rahmat pey lākhoñ salām
54. rīsh e khush mūtadil marham e rīsh dil
hāla e māh e nudrat pey lākhoñ salām
55. patli patli gul e quds ki pattiyāñ
un laboñ kī nazākat pey lākhoñ salām
56. woh dahan jis ki har bāt waḥy e khudā
chashma e īlm o ḥikmat pey lākhoñ salām
57. jis key pāni sey shādāb jān o janāñ
us dahan kī ṭarāwat pey lākhoñ salām
58. jis sey khāri kunweñ shīrah e jāñ baneñ
us zulāl e ḥalāwat pey lākhoñ salām
59. woh zabāñ jis ko sab kun ki kunjī kaheñ
us ki nāfiz ḥukūmat pey lākhoñ salām
60. us ki pyāri faṣāḥat pey bey ḥad durūd
us ki dilkash balāghat pey lākhoñ salām

61. us ki bātoñ ki lazzat pey lākhoñ durūd
us ke khūṭbey ki haybat pey lākhoñ salām
62. woh duáā jis ka jawban bahār e qabūl
us nasīm e ijābat pey lākhoñ salām
63. jin key guch’chey sey lach’chey jhađeyñ nūr key
un sitāroñ ki nuz’hat pey lākhoñ salām
64. jis ki taskīñ sey rotey huwey hañs pađeyñ
us tabassum ki áādat pey lākhoñ salām
65. jis meiñ nahreñ haiñ shīr o shakar ki rawāñ
us galey kī nazārat pey lākhoñ salām
66. dosh bar dosh hai jin sey shāñ e sharaf
aysey shānoñ ki shaukat pey lākhoñ salām
67. ḥajar e aswad e kábah e jān o dil
yáni muhr e nubuwat pey lākhoñ salām
68. rū e áyīnah e ílm e pusht e huzūr
pushti e qaṣr e millat pey lākhoñ salām
69. hāth jis samt uthā ghanī kardiyā
mawj e baḥr e samāḥat pey lākhoñ salām
70. jis ko bār e do áālam ki parwāh nahīñ
aysey bāzū ki quwwat pey lākhoñ salām

71. kábah e dín o ímāñ key donoñ sutūñ
sāýidayn e risālat pey lākhoñ salām
72. jis key har khañ meiñ hai mauj e nūr e karam
us kaf e bāhr e himmat pey lākhoñ salām
73. nūr key chashm lehrāyeñ dariyā baheñ
ungliyoñ kī kāramat pey lākhoñ salām
74. ýid e mushkil kushāyi ke chamkey hilāl
nākhunoñ kī bishārat pey lākhoñ salām
75. raf'a e zikr e jalālat pey arfá durūd
shar̄h e şadr e şadārat pey lākhoñ salām
76. dil samajh sey warā hai magar yuñ kahūñ
ghuncha e rāz e waḥdat pey lākhoñ salām
77. kul jahāñ milk aur jaw ki roñi ghizā
us shikam kī qanāát pey lākhoñ salām
78. jo key ázm e shafāát pey khinch kar bandhi
us kamar kī ḥimāyat pey lākhoñ salām
79. anbiyā'a tah kareñ zānoñ unkey huzūr
zanuoñ kī wajāhat pey lākhoñ salām
80. sāq e aşl e qadam shākh e nakhl e karam
shamá e rāh e iṣābat pey lākhoñ salām

81. khāyi qur'āñ ney khāk e guzar kī qasam
us kaf e pā ki ḥurmat pey lākhoñ salām
82. jis suhāni ghaḍī chamka ṭaybah kā chānd
us dil afroz sāát pey lākhoñ salām
83. pahley sajdey pey roz-e-azal sey durūd
yād gārī e ummat pey lākhoñ salām
84. zarā shādāb o har zirā pur shīr sey
barakāt e razāát pey lākhoñ salām
85. bhayiyoñ key liye tark e pistāñ kareN
dūdh peetoñ ki nişfat pey lākhoñ salām
86. mahd e wālā ki qismat pey şad hā durūd
burj e māh e risālat pey lākhoñ salām
87. Allāh Allāh! woh bachpaney kī phaban
us khudā bhātī şūrat pey lākhoñ salām
88. uṭh'tey būtoN ki nashw o numāñ par durūd
khiltey ghunchoñ ki nak'hat pey lākhoñ salām
89. fazl e paydāyishī par hameshā durūd
khelney sey karāhat pey lākhoñ salām
90. iýtilāy e jibillat pey áālī durūd
iýtidāl e ṭawiyyat pey lākhoñ salām

91. bey banāwaṭ adā par hazāroñ durūd
bey takalluf malāḥat pey lākhoñ salām
92. bhīnī bhīnī mahak par mahaktey durūd
pyārī pyārī nafāsat pey lākhoñ salām
93. mī̄thi mī̄thi ī̄bārat pey shīrīñ durūd
ach' chī ach' chī ishārat pey lākhoñ salām
94. sīdhī sīdhī rawish par karoroñ durūd
sādi sādi ṭabiāt pey lākhoñ salām
95. roz e garm o shab o teerah o tār meiñ
koh o şâhrā ki khalwat pey lākhoñ salām
96. jis key gherye meiN haiN anbiyā o malak
us jahāñ gīr biysat pey lākhoñ salām
97. andhey shīshey jhalajhal damakney lagey
jalwah reyzi e dāwat pey lākhoñ salām
98. luṭf e beydāri e shab pey beyḥad durūd
āalam e khwāb e rāḥat pey lākhoñ salām
99. khandah e subḥ e ī̄shrat pey nūrī durūd
giryah e abr e rāḥmat pey lākhoñ salām
100. narmi e khū e līnat pey dāyim durūd
garmi e shān e saṭwat pey lākhoñ salām

101. jis key āagey khiñchī gardaneñ jhuk gayīñ
us khudā dād shawkat pey lākhoñ salām
102. kis ko dekhā, ye mūsā sey pūchey koyī
ānkhoñ wāloñ ki himmat pey lākhoñ salām
103. gard e mah dast e anjum meiñ rakhshāñ hilāl
badr kī dafā e žulmat pey lākhoñ salām
104. shor e takbīr sey thar-tharātī zamīñ
juñbish e jaysh e nuşrat pey lākhoñ salām
105. naárahāy e dilerāñ sey ban gūnjtey
ghurrish e kūs e jur'at pey lākhoñ salām
106. woh chaqā-chāq khanjar sey aātī şadā
muşṭafā terī şawlat pey lākhoñ salām
107. unkey aāgey woh ̄hamzah ki jāñbāziyāñ
sher e ghurrāñ e sañwat pey lākhoñ salām
108. al-gharaz unkey har mū pey lākhoñ durūd
unki har khū o khaşlat pey lākhoñ salām
109. unkey har nām o nisbat pey nāmī durūd
unkey har waqt o ̄hālat pey lākhoñ salām
110. un key mawlā key un par karoroñ durūd
un key aş-̄hāb o ítrat pey lākhoñ salām

111. pārahā e şūhuf ghunchahā e qudus
ahl e bayt e nubuwwat pey lākhoñ salām
112. aāb e taṭ-hīr sey jis meiñ pawdey jamey
us riyāz e najābat pey lākhoñ salām
113. khūn e khayru'r rusul sey hai jin kā khamīr
un ki bey laws ḥinat pey lākhoñ salām
114. us batūl e jigar pārah e muṣṭafā
ḥijlah ārā e íffat pey lākhoñ salām
115. jis kā ānchal na dekhā mah o mihr ney
us ridā e nazāhat pey lākhoñ salām
116. sayyidah zāhirah ṭayyibah ṭāhirah
jān e āḥmad ki rāḥat pey lākhoñ salām
117. ḥasan e mujtabā, sayyidu'l askhiyā
rākib e dosh e ízzat pey lākhoñ salām
118. awj e mihr e hudā mawj e bāhr e nadā
rawḥ e rūḥ e sakhwāwat pey lākhoñ salām
119. shahd khwār e luáab e zabān e nabiy
chāshnī gīr e işmat pey lākhoñ salām
120. us shahīd e balā shāh e gulguñ qabā
beykas e dasht e ghurbat pey lākhoñ salām

121. durr e durj e najaf, mihr e burj e sharaf
rang e rū e shahādat pey lākhoñ salām
122. ahl e islām kī mādarān e shafīq
bānu'wān e ṭahārat pey lākhoñ salām
123. jalwa-gayyān e baytu'sh sharaf par durūd
parwa-gayyān e íffat pey lākhoñ salām
124. siyyimā pahli māñ kahf e amn o amāñ
haqq guzār e rifāqat pey lākhoñ salām
125. ársh sey jis pey taslim nāzil huwī
us sarā e salāmat pey lākhoñ salām
126. munzilun min qaşab lā naşab lā şakhab
aysey kūshak kī zīnat pey lākhoñ salām
127. bint e şiddiq āarām e jān e nabiy
us ḥarīm e bara'at pey lākhoñ salām
128. yánī hai sūrah e nūr jin kī gawāh
un ki pur nūr şūrat pey lākhoñ salām
129. jin meiñ rū̄h al-qudus bey ijāzat na jayeñ
un surādiq ki íşmat pey lākhoñ salām
130. shamá e tābān e kāshānah e ijtihād
muftī e chār e millat pey lākhoñ salām

131. jāñ nisārān e badr o ūhud par durūd
 ̄haqq guzārān e bayāt pey lākhoñ salām
132. woh dasoñ jin ko jannat ka muzhdah milā
 us mubārak jamāát pey lākhoñ salām
133. khāṣ us sābiq e sayr e qurb e khudā
 aw̄had e kāmiliyyat pey lākhoñ salām
134. sāya e muṣṭafā māya e iṣṭafā
 ízz o nāz e khilāfat pey lākhoñ salām
135. yánī us afḍalu'l khalqi báad ar-rusul
 sāni isnayn e hijrat pey lākhoñ salām
136. aşdaqu's şādiqīñ sayyidu'l muttaqīñ
 chashm o gosh e wizārat pey lākhoñ salām
137. woh úmar jis key aádā'a pey shaydā saqar
 us khudā dost hazrat pey lākhoñ salām
138. fāriq e ̄haqq o bāṭil imāmu'l hudā
 taygh e maslūl e shiddat pey lākhoñ salām
139. tarjumān e nabiy ham zabān e nabiy
 jān e shān e ádālat pey lākhoñ salām
140. zāhid e masjid e ̄hmadi par durūd
 dawlat e jaysh e úsrat pey lākhoñ salām

141. durr e mansur e qurāñ ki silk e bahī
zawj e do nūr e íffat pey lākhoñ salām
142. yánī úsmān şāhib qamīş e hudā
ħulla posh e shahādat pey lākhoñ salām
143. murtazā sheyr e ħaqq ashjáu'l ashjáiñ
sāqī e shīr o sharbat pey lākhoñ salām
144. aşl e nasl e şafā wajh e waşl e khudā
bāb e faşl e wilāyat pey lākhoñ salām
145. awwalīN dāfiý e ahl e rafz o khurūj
chār mī rukn e millat pey lākhoñ salām
146. sheyr e shamshīr-zan shāh e khaybar shikan
partaw e dast e qudrat pey lākhoñ salām
147. maħħī e rafz o tafzil o naṣb o khurūj
ħāmī e dīn o sunnat pey lākhoñ salām
148. mu'minīñ peysh e fat'ħ o pas e fat'ħ sab
ahl e khayr o ádālat pey lākhoñ salām
149. jis musalmāñ ney dekhā unheñ ik nażar
us nażar kī başārat pey lākhoñ salām
150. jin key dushman pey lánat hai Allāh kī
un sab ahl e maħabbat pey lākhoñ salām

151. bāqī e sāqiyān e sharāb e ḥahūr
zayn e ahl e ībādat pey lākhoñ salām
152. aur jitney haiñ shahzādey us shāh key
un sab ahl e makānat pey lākhoñ salām
153. un kī bālā sharāfat pey aálā durūd
un kī wālā siyādat pey lākhoñ salām
154. shāfiyī mālik āhmad imām e ḥanīf
chār bāgh e imāmat pey lākhoñ salām
155. kāmilān e ḥarīqat pey kāmil durūd
ḥāmilān e shariāt pey lākhoñ salām
156. ghaws e aázam imāmu't tuqā wa'n nuqā
jalwa e shān e qudrat pey lākhoñ salām
157. quṭb e abdāl o irshād o rushdu'r rashād
muŷhi e dīn o millat pey lākhoñ salām
158. mard e khayl e ḥarīqat pey beynad durūd
fard e ahl e ḥaqiqat pey lākhoñ salām
159. jis ki minbar huwi gardan e awliyā'a
us qadam kī karāmat pey lākhoñ salām
160. shāh e barakāt o barakāt e peyshīniyāN
nau bahār e ḥarīqat pey lākhoñ salām

161. sayyid aāl e mūhammad imāmu'r rashīd
gul e rawz e riyāzat pey lākhoñ salām
162. hazrat e ḥamzah sheyr e khudā o rasūl
zīnat e qādariyyat pey lākhoñ salām
163. nām o kām o tan o jān o ḥāl o maqāl
sab meiñ ach'chey ki şūrat pey lākhoñ salām
164. nūr e jāñ íṭr e majmūáh āal e rasūl
merey āaqā e niýmat pey lākhoñ salām
165. zeyb e sajjādah sajjād nūrī nihād
âhmad e nūr e ḥinat pey lākhoñ salām
166. bey ázāb o ítāb o ḥisāb o kitāb
tā abad ahl e sunnat pey lākhoñ salām
167. terey in dostoñ key ṭufayl ay khudā
bandah e nang e khilqat pey lākhoñ salām
168. merey ustād māñ bāp bhāyī bahen
ahl e wuld o áshīrat pey lākhoñ salām
169. eyk merā hi rāhmat meiñ dáwah nahiñ
shāh kī sārī ummat pey lākhoñ salām
170. kāsh mahshar meiñ jab unki āmad ho aur
bhejeñ sab un ki shawkat pey lākhoñ salām
171. mujh sey khidmat key qudsī kaheñ: "hāñ razā!
muşṭafā jān e rāhmat pey lākhoñ salām"



URDU TEXT

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
 شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام
 مہرِ چرخِ نبوّت پہ روشن درود
 گلِ بارِ رسالت پہ لاکھوں سلام
 شہرِ یارِ ارم تاجدارِ حسم
 نوبہر کا رشافت پہ لاکھوں سلام
 شبِ اسرائیل کے دو طھا پہ داعم درود
 نوشہ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام
 عرش کی زیرِ زینت پہ عرشی درود
 فرش کی طیب ذریعت پہ لاکھوں سلام
 نورِ عینِ لطافت پہ الطف درود
 زیرِ زینِ نظافت پہ لاکھوں سلام
 سرو نازِ دستِ مغزِ رازِ حکم
 یکھڑا نازِ فضیلت پہ لاکھوں سلام

نقطہ سرِ وحدت پہ یکتا درود
مرکز دور کرت پہ لاکھوں سلام
صاحب رجعتِ شمس و شق القمر
ناسبِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام
جس کے زیرِ لوا آدم و من روا
اس سزاۓ سیادت پہ لاکھوں سلام
عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں
اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام
اصل ہربُود و بہبُود تحسیم وجود
فاتح کنزِ نعمت پہ لاکھوں سلام
فتح بابِ نبوٰت پہ بے حد درود
ختم دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام
شرقِ انوارِ قدرت پہ نوری درود
فتیقِ انہارِ قربت پہ لاکھوں سلام
بے ہیم و قسم و عَدیل و مشیل
جو ہر فردِ عزت پہ لاکھوں سلام
مرغیبِ ہدایت پہ غیبی درود
عطربیجیبِ نہایت پہ لاکھوں سلام

ماہ لاہوت خلوت پر لاکھوں درود
 شاہ نہوت خلوت پر لاکھوں سلام
 کنز ہر بے کس و بے نوا پر درود
 حرز ہر رفتہ طاقت پر لاکھوں سلام
 پرتو اسمِ ذاتِ احمد پر درود
 نسخہ جمیعت پر لاکھوں سلام
 مطلع ہر سعادت پر اسعد درود
 مقطع ہر سیادت پر لاکھوں سلام
 خلق کے دادرس سبک فرید رگ
 کھفِ روزِ صیبت پر لاکھوں سلام
 مجھ سے بے کس کی دولت پر لاکھوں درود
 مجھ سے بے کس کی قوت پر لاکھوں سلام
 شیع بن مِ دنیٰ ہو میں گم کئی آنا
 شرح متن ہمُوریت پر لاکھوں سلام
 انتہائے دوئی ابتدائے یکی
 جمع تفریق و کثرت پر لاکھوں سلام
 کثرت بعدِ قلّت پر اکثر درود
 عزّت بعدِ ذلت پر لاکھوں سلام
 ربِ اعلیٰ کی نعمت پر اعلیٰ درود
 حق تعالیٰ کی منت پر لاکھوں سلام

ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود
 ہم فقیروں کی شوت پہ لاکھوں سلام
 فرجتِ جانِ مون پہ بے حد درود
 بغیر قلبِ ضلالات پہ لاکھوں سلام
 سببِ ہر سببِ منتهیٰ تے طلب
 علّتِ جملہ علت پہ لاکھوں سلام
 مصدرِ مظہریت پہ اخہر درود
 مظہرِ مصدریت پہ لاکھوں سلام
 جس کے جلو سے مرحجاتی کلیاں کھلیں
 اُنگلی پاکِ نسبت پہ لاکھوں سلام
 قدر بے سایہ کے سایہ مرحمت
 ظلِّیٰ محدود رافت پہ لاکھوں سلام
 طائرانِ گُدُس جس کی ہیں قمیاں
 اس ہمی سر و قامت پہ لاکھوں سلام
 وصف جس کا ہے آئینہ حق نما
 اس خدا ساز طاعت پہ لاکھوں سلام
 جس کے اگے سرِ سرور اس خم رہیں
 اس سرِ تاجِ فتح پہ لاکھوں سلام

وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا
لکھ اب رافت پہ لاکھوں سلام
لینکَتُ الْفَدَنْ میں مُطَلِّعُ الْبَرِّ حق
ماںگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام
لخت لخت دل ہر چکر چاک سے
شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام
دُور و نزدیک کے سننے والے وہ کان
کانِ علیٰ کرامت پہ لاکھوں سلام
پشمیر مہر میں موچ نورِ بلال
اس رگِ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام
جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا
ان جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام
جن کے سجدے کو محرابِ بعثتِ حمکی
ان بھنوں کی اطاافت پہ لاکھوں سلام
اُن کی آنکھوں پہ وہ سایہِ انگُلِ مژہ
ظلِ قصرِ رحمت پہ لاکھوں سلام
اشکباریِ مژگاں پہ بُرے سے درود
سلکِ شفاعت پہ لاکھوں سلام
معنیِ قدِ رائیِ مقصدِ مَنَاطِعِی
نگسِ باغِ قدرت پہ لاکھوں سلام

جس طرف الٹھگی دم میں دم آگیا
 اس نگاہِ عنایت پے لاکھوں سلام
 بچپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود
 اوپھی بینی کی رفتت پے لاکھوں سلام
 جن کے آگے چسپے اربعین چھلکلاتے
 ان ازوں کی طلعت پے لاکھوں سلام
 اُن کے خد کی سہولت پر پے حد درود
 ان کے قدر کی رشاقت پے لاکھوں سلام
 جس سے تاریکیں ل جائی گانے لگے
 اس چپکتی لی رنگت پے لاکھوں سلام
 چاند سے منخ پتہ پاں درخشاں درود
 نہ کسی گیسی صیاحت پے لاکھوں سلام
 شبِ نیم باری حق یعنی رخ کا عشق
 اس کی پیغمبری براقت پے لاکھوں سلام
 خط کی گروہن وہ دل آرا پھیں
 سبزہ نہ رحمت پے لاکھوں سلام
 ریش خوش مُعتدل صریح ریش دل
 ہالتہ ماہ ندرت پے لاکھوں سلام

پتکی پتکی گلِ فتس کی پتیاں
ان بلوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام
وہ دہن جس کی ہربات و حی خدا
چشمہ علم و حکمت پر لاکھوں سلام
جس کے پانی سے شاداب جان و جناب
اس دہن کی طراوت پر لاکھوں سلام
جس سے کھاری کنوں شیرہ جان بنے
اس زلالِ حلاوت پر لاکھوں سلام
وہ زیاب جن کو سب کن کی کنجی کہیں
اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام
اس کی پیاری فصاحت پر بیدار درود
اس کی دلکش بلاغت پر لاکھوں سلام
اس کی باتوں کی لذت پر لاکھوں درود
اس کے خطبے کی ہدایت پر لاکھوں سلام
وہ دُعا جس کا بوجن بہس ار قبول
اس نسبم اجابت پر لاکھوں سلام
جن کے گچھے سے پچھے جھٹپیں نور کے
ان ستاروں کی نزہت پر لاکھوں سلام

جس کی تسلیکیں رکو تے ہوئے نہیں پڑیں
 اس تعمیم کی عادت پر لاکھوں سلام
 جس میں نہیں ہیں شیر و مکر کی رواں
 اس گلے کی نصارت پر لاکھوں سلام
 دوش بردوش ہے جن سے شانِ ثرب
 ایشانوں کی شوکت پر لاکھوں سلام
 حجَّ اسودِ کعبَہ جان و دل
 یعنی مہرِ نبوت پر لاکھوں سلام
 روئے آیتَہ علم پشتِ حضور
 پشتی قصرِ مرت پر لاکھوں سلام
 ہاتھ جس سمت اُٹھا عنی کر دیا
 موچ بحرِ سماحت پر لاکھوں سلام
 جس کو بارِ دوعَالم کی پروانیں
 ایسے بازو کی قوت پر لاکھوں سلام
 کعبَہ دین وایاں کے دونوں ستوں
 ساعدینِ رسالت پر لاکھوں سلام
 جس کے ہر خط میں ہے موچِ نورِ کرم
 اس کفِ بحرِ ہمت پر لاکھوں سلام

نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں
انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام
عید مشکل کشانی کے چکے ہال
ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام
رفع ذکرِ حبکلات پہ ارفخ درود
شرح صدرِ صدارت پہ لاکھوں سلام
دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں
غنجیہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام
کل جہاں ملک اور بجَر کی روٹی غذا
اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام
جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کر بندھی
اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام
ابیا تہ کریں زانوں کے حضور
زانوں کی وجہت پہ لاکھوں سلام
ساقِ اصلِ قدمِ شاخِ نخلِ کرم
شمعِ راہِ اصابت پہ لاکھوں سلام
کھانی قرآن نے خاکِ گزر کی قسم
اس کفِ پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام

جس سہانی گھری چکا طبیب کا چاند
اس دل افروز ساعت پر لاکھوں سلام

پہلے سجدہ پر روزِ ازل سے درود
یادگاری امت پر لاکھوں سلام

زرع شاداب و ہر ضرع پر شیرست
برکاتِ رضاعت پر لاکھوں سلام

بھائیوں کے لئے ترکِ پستان کریں
دو دھوپیوں کی نصفت پر لاکھوں سلام

مہد والا کی قسمت پر صد بار درود
بُرچ ماهِ رسالت پر لاکھوں سلام

اللہ اللہ وہ بھینے کی بھبن!
اس خدا بھائی صورت پر لاکھوں سلام

اٹھتے بولوں کی نشوونما پر درود
کھلتے غنوں کی نکتت پر لاکھوں سلام

فضلِ پیغمبر ارشی پر تکمیلہ درود
کھیلنے سے کرامت پر لاکھوں سلام

اعتلاءِ جبلت پر عالی درود
اعتدال طوبیت پر لاکھوں سلام

بے بنادر ط ادا پر ہزاروں درود
بے تکلف ملاحت پر لاکھوں سلام

بھینی بھیجنی ٹھاک پر ٹھکتی درود
 پیاری پیاری انفاست پلاکھوں سلام
 بیٹھی بیٹھی عبارت پے شیریں درود
 اچھی اچھی اشارت پلاکھوں سلام
 سیدھی سیدھی روشن پر کروں درود
 سادی سادی طبیعت پلاکھوں سلام
 روز گرم و شب تیرہ وتاریں
 کوہ و صحرائی خلوت پلاکھوں سلام
 جس کے گھیرے میں ہیں انبیا ولک
 اس پہنچانگیر بعثت پلاکھوں سلام
 اندرے شیشے چھک لاحبیل رکنے لگے
 جلوہ ریزی دھوت پلاکھوں سلام
 لطف بیداری شب پہ بے حد درود
 عالمِ خوابِ راحت پلاکھوں سلام
 خندہِ صحیح عشرت پر فوری درود
 گریئے ابیر رحمت پلاکھوں سلام
 نرمی خرتے یینت پے دامم درود
 گرمی شان سلطنت پلاکھوں سلام

جس کے اگے پہنچی گردئیں جھک گئیں
اس خدا داد شوکت پر لاکھوں سلام
بھس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی
انگھوں والوں کی ہمت بیلے لاکھوں سلام
گردِ مہ دستِ انجم میں رخشان ہلال
بدر کی دفعِ ظلمت پر لاکھوں سلام
شورِ تکیر سے تھر تھراتی زمیں
جنیشِ جیش نصرت پر لاکھوں سلام
نعراتے دلیاں سے بن گوئختہ
غرض کوں جرأت پر لاکھوں سلام
وہ چھاپاچا خبر سے آتی صدرا
مصطفیٰ تیری صوات پر لاکھوں سلام
اُن کے اگے وہ حمزہ کی جانبازیاں
شیرِ غرآن سطوت پر لاکھوں سلام
الفر من اُن کے ہر مؤپر لاکھوں درود
ان کی ہر خوف خصلت پر لاکھوں سلام
ان کے ہر نام و نسبت پر نائی درود
اُن کے ہر وقت حالات پر لاکھوں سلام

ان کے مولیٰ کی ان پر کروں درود
 ان کے اصحابِ عزت پر لاکھوں سلام
 پارہائے صحف غنچہ مائے فردیں
 اہل بیت نبوت پر لاکھوں سلام
 اب تطہیر سے جس میں پورے سے مجھے
 اس ریاضِ نجابت پر لاکھوں سلام
 خونِ نیزِ الرسل سے ہے جن کا خیر
 ان کی بے لوث طینت پر لاکھوں سلام
 اس بتولِ بگر پارہ مصطفیٰ
 جملہ آرائے عفت پر لاکھوں سلام
 جس کا آنچھل نہ دیکھا سر و مہر نے
 اس برداۓ نزاہت پر لاکھوں سلام
 سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ
 جانِ احمد کی راحت پر لاکھوں سلام
 حسنِ مجتبی سید الائمه
 راکِ دوشِ عزت پر لاکھوں سلام
 اوجِ مہرِ ہدیٰ موجِ بحرِ ندیٰ
 روحِ روحِ سخاوت پر لاکھوں سلام

شہد خوارِ لعابِ زبانِ نبی
 چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام
 اس شہیدِ بلا شاہِ گلگول قبض
 بیکیں دشتِ غربت پہ لاکھوں سلام
 در دریجِ نجفِ ہر سر بریجِ شرف
 رنگِ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام
 اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق
 یا نواں ہر سارت پہ لاکھوں سلام
 جلوگیرِ انِ بیتِ الشرف پر درود
 پروگیرِ انِ عفت پہ لاکھوں سلام
 رسیخا پہلی ماں کھفِ امن و امان
 حقِ گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام
 عرش سے جس پیغمبرِ نازل ہوئی
 اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام
 منزلِ منْ فَصَبَ لَأَنْصَبَ لَاصْحَبَ
 ایسے کوٹک کی زینت پہ لاکھوں سلام
 بنتِ صدیقِ امام جس انِ نبی
 اس حرمِ ہم براہت پہ لاکھوں سلام

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ
 ان کی پر نور صورت پر لاکھوں سلام
 جن میں روح القدس بے لیاقت تھا جائیں
 اُن مُسرارِ حق کی عصمت پر لاکھوں سلام
 شیع تابان کاشش اجتہاد
 مفتی چار ملت پر لاکھوں سلام
 جمال نثاران پدر و احمد پر درود
 حق گزاران بیعت پر لاکھوں سلام
 وہ دسوں جن کو حبّت کا مرثہ ملا
 اس مبارک جماعت پر لاکھوں سلام
 خاص اس سابقی سیر قرب خدا
 او حسر کامیت پر لاکھوں سلام
 سایر مصطفیٰ مایر مصطفیٰ
 عز و ناز خلافت پر لاکھوں سلام
 یعنی اُس افضل اخلاق بعـالـلـلـهـ
 ثانی اثنین ہجرت پر لاکھوں سلام
 اصدق الصارقین سید المتقین
 پشم و گوش وزارت پر لاکھوں سلام

وہ عمر جس کے بعد ا پرشیدا سفر
 اس خدا دوست حضرت پلاکھوں سلام
 فارق حق و باطل امام الحمدی
 تینخ مسلول شدت پلاکھوں سلام
 ترجمہ ان نبی ہمسن بابی نبی
 جانِ شانِ عدالت پلاکھوں سلام
 زاہدِ مسجدِ احمدی پر درود
 دولتِ جیش عورت پلاکھوں سلام
 درمنشور فرقہ کی سلک بھی
 رُوحِ دلو نورِ عرفت پلاکھوں سلام
 یعنی عثمان صاحب قمیصِ بدی
 حملہ پوشِ شہادت پلاکھوں سلام
 مرضی شیرحق اشمع الاجمیعین
 ساقی شیر و شربت پلاکھوں سلام
 اصلِ نسلِ صفا و حجر و صلی خودا
 بابِ نصلی ولایت پلاکھوں سلام
 آولیں دافعِ اہلِ رضن و خروج
 چار می رکنِ مت پلاکھوں سلام

شیر شمیر زن شاہ خیر شکن
 پرتو دست قدرت پ لاکھوں سلام
 ماجی رضن تفضیل و نصب و خروج
 حاجی دین و سنت پ لاکھوں سلام
 مونیق شیش فتح و پس نستخ سب
 اہل خیر و عدالت پ لاکھوں سلام
 جس مسلمان نے دیکھا انھیں اکاظھر
 اس نظر کی بصارت پ لاکھوں سلام
 جن کے دشمن پ لغعت ہے اللہ کی
 ان سب اہل محبت پ لاکھوں سلام
 باقی ساقی ان شراب طہور
 زین اہل عبادت پ لاکھوں سلام
 اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے
 ان سب اہل مکانت پ لاکھوں سلام
 اُن کی بالا شرافت پ اعلیٰ درود
 ان کی والا سیادت پ لاکھوں سلام
 شافعی مالک احمد امام حنفی
 چار بارِ امامت پ لاکھوں سلام

کاملانِ طریقت پے کامل درود
 حاملانِ شریعت پے لاکھوں سلام
 غوثِ اعظم امام التقى دا لئنے
 جلوہ شانِ قدرت پے لاکھوں سلام
 قطبِ ببال و ارشاد و رشد ارشاد
 مجی دین و ملت پے لاکھوں سلام
 مرد خیلِ طریقت پے بے حد درود
 فرد الٰی حقیقت پے لاکھوں سلام
 جس کی منبر ہوئی گردبی اویا
 اس قدم کی کرامت پے لاکھوں سلام
 شاہ برکات و برکات پیشیزیاں
 نوبہارِ طریقت پے لاکھوں سلام
 سید آل محمد امام الرشید
 گلِ روضِ ریاضت پے لاکھوں سلام
 حضرت حمزہ شیر خدا و رسول
 زینت قادریت پے لاکھوں سلام
 نام و کام و تن و جس ان حال و مقام
 سبیلِ اچھے کی صورت پے لاکھوں سلام

نور جاں عطر مجموعہ آلِ رسول
 میرے آفیٰ نعمت پر لاکھوں سلام
 تیب سجادہ سجادہ نوری نساد
 احمد نور طینت پر لاکھوں سلام
 بے غذاب و عتاب حساب کتاب
 تا ابد آلِ سنت پر لاکھوں سلام
 تیرے ان دوستوں کے طفیل اے خدا
 بندۂ زنگ خلقت پر لاکھوں سلام
 میرے استار ماں باپ بھائی بہن
 آلِ ولد و عشیرت پر لاکھوں سلام
 ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں
 شاہ کی ساری امت پر لاکھوں سلام
 کاشِ محشر میں جبان کی آمد ہوا در
 بھیجیں رائی کی شوکت پر لاکھوں سلام
 محمد سے خدمت کئے قدسی کہیں ہاں رضا
 مصطفیٰ جانِ رحمت پر لاکھوں سلام

TRANSLITERATION KEY

Urdu Letter	Latin Character	Urdu Example	Transliteration	Similar Sound
ا اء	a	امیر	aṁīr	amazing
ب	b	باب	bāb	basket
ت ئ	t	تاج	tāj	t in French trois
ث س ص	s	ذابت سلام صریح	salām	soft
ج	j	جسد	jasad	jam
ح	h	حسن	ḥasan	similar to hose no English equivalent voiceless pharyngeal fricative
خ	kh	خبر	khabar	similar to Scottish loch no english equivalent
د	d	دہ	dār	d in French dais
ز ذ ظ ض	z	ذكر	zíkr	
	z	ربان	zabān	zone
	ż	ظل	zill	
	z	ضیاء	ziyā'a	
ر	r	اشد	rāshid	trilled r as in rose
ش	sh	شب	shāb	shock
ع	á, i, ú, ý	عرب علم عمر عبد	árab ílm úmar ýíd	voiced pharyngeal fricative no English equivalent
غ	gh	غار	ghār	as in French r rester voiced uvular fricative
ف	f	فجر	fajr	flower

Urdu Letter	Latin Character	Urdu Example	Transliteration	Similar Sound
ق	q	قرب	qarīb	a guttural k voiceless uvular stop no English equivalent
ک	k	کتاب	kitāb	kin
ل	l	لباس	libās	late
م	m	مال	māl	morning
ن	n	نور	nūr	noon
ں	ñ	میں	meñ maiñ	Nasal as in French Blanc
ھ	h	ھدی	hudā	house
و	w	وزیر	wazīr	word
ی	y	پد	yad	yellow
ٻ	p	پار	pār	part
ٿ		روڻی	roṭī	tomorrow
چ	ch	چار	chār	choose
ڏ		ڏر پڏھ	darr padh	dare
گ	g	گلاب	gulāb	gold
ٻ	ā	باب	bāb	father
س	ī	سریر	sarīr	tree
و	ū	طور	ṭūr	root
عا	áā	علم	áālim	-

Urdu Letter	Latin Character	Urdu Example	Transliteration	Similar Sound
ع	ýī	عبد	ýīd	-
و	úú	عود	úúd	-
ش	sh'sh sh-sh	الشمس	ash'shamis ash-shams	-
ل	a' or a-	مامور	ma'mür	-
س	i'y or i-y	بسن	bi'ysa bi-ysa	-
خ	u' or u-	لولو سوالك	lu'lu' su-lika	-
,	اصلحاب تکھیل اسپول		aş'hab tak'hil as'hal	separator to distinguish between sounds represented by letter pairs
-	اصلحاب تکھیل اسپول		aş-hab tak-hil as-hal	separator to distinguish between sounds represented by letter pairs
superscript	من		mi ⁿ	to indicate an elision
-	مارب		ma-ārib	separator when elongation follows a vowel

This table contains major characters/sounds in Urdu transliteration; a number of vowels, diphthongs and combination sounds unique to Urdu/Indian languages are omitted for brevity.

ABOUT THE AUTHOR

Imām Ȧhmed Ridā Khān al-Baraylawī ﷺ was born in 1272 (1856) in Bareilly, a city in North India, in a famous family of scholars; his father

Mawlānā Naqī Áli Khān and grandfather Ridā Álī Khān were prominent scholars of Ahl as-Sunnah of their time. He studied Islamic sciences in the tutelage of his erudite father. Alahazrat was a master of many sciences and particularly in Ḥanafī fiqh, he was outstanding among his contemporaries. Even his adversaries have acknowledged that he was peerless in this discipline.

He has many *ijāzahs* or degrees of authorisation in Ḥanafī fiqh, and the most important¹ among them is from the Muftī of Makkah, Shaykh Ábd al-Rāhmān al-Sirāj ibn Ábdullāh al-Sirāj. This chain of transmission reaches Imām Abū Ḥanifah through twenty seven links and in further four to the Master of all creation, Muḥammad RasūlAllāh ﷺ. He has an authorisation of ḥadīth transmission from the great Meccan scholar, Malik al-Úlamā, Sayyid Ahmed Zaynī Dahlān al-Shāfiyī. Imām Ahmed Ridā is widely known for his refutation of Wahābīs, innovators and libertarian religion-reformers of the early 20th century of the Common Era.

Alahazrat, meaning the ‘Grand Master,’ was a common title of respect² in the 13th/14th century Hijri. Imām Ahmed Ridā was called as Alahazrat by his followers as he was the major force against innovators and the leader of Sunni scholars of his time. This title became so famous, that it has almost become a synonym for Imām Ahmed Ridā Khān. Upon his second and eventful visit to Arabia in 1324 AH, the scholars of the two sanctuaries – Makkah and Madinah – were so impressed by his erudition and his efforts to safeguard Ahl as-Sunnah, that prominent ones among

¹ According to Alahazrat himself as mentioned in the Preface of *Fatāwā ar-Ridawiyah*.

² Similar to "His Highness," "His Majesty," "His Holiness," etc.

them hailed him as the Reviver of the Religion.³ Major scholars in (pre-partition) India agreed that all the qualities required in a Reviver were found in him and thus he is the Mujaddid of the 14th century after the Prophet's ﷺ migration.

Imām Aḥmed Ridā referred to himself as ‘the slave of the Prophet’ ﷺ or *Ābd al-Muṣṭafā* in Arabic. His skill as a jurist outshone his other abilities and even the corpus of his work is mainly *fatāwā*. Many lengthy books that he has written are usually as a response to questions. Many of his rulings (and more than 150 *fatāwā* as monographs) were collected, indexed and ordered by the Imām himself and named *Al-Āṭāyā an-Nabawiyyah fil' Fatāwā ar-Ridāwiyyah*, popularly known in the subcontinent as *Fatāwā e Razawiyyah* and has been recently published in Pakistan in 30 volumes.⁴ Apart from commentaries and glosses on various texts, his other important works are :

1. **Kanz al-Īmān:** An explanatory translation of the Qur'ān in Urdu.
2. **Mustanad al-Mútamad:** A commentary on the Arabic work Al-Mútaqad al-Muntaqad by Imām Faḍl ar-Rasūl al-Badāyūnī.⁵
3. **Jadd al-Mumtār:** A five volume supercommentary on *Radd al-Muḥtār* of Imām Sayyid Muḥammad Amin Ibn Ābidin al-

³ *Mujaddid*. It is related from tradition, that an erudite scholar will appear at the head of every century and revive the religion and clarify doubts and fight innovation.

⁴ Initially, it was published in 12 volumes of approximately 800 pages each in quarto size and small text-size; however, this has been republished from Pakistan in 30 volumes; along with 2 additional volumes for topic and word indexes. This new edition spans approximately 22,000 pages and contains 207 monographs of the Imām. Along with indexes it is now available as a 33 volume set. A

⁵ Passed away in 1289/1872.

Shāmī,⁶ which is arguably, the most widely used Ḥanafī text in latter times.

4. *Dawlah al-Makkiyyah bi'l Māddah al-Ghaybiyyah*
5. *Amn wa'l Úlā li Nāyiti'l Muṣṭafā bi Dāfiy al-Balā'a*
6. *Tamhīd e Īmān*
7. *Dhayl al-Muddāā li Aḥsan al-Wiāā li Ādāb ad-Duāā*
8. *Fadl al-Mawhibī fī Māana: idhā ṣāḥħa'l ḥadīthu fa huwa madh'habī*
9. *Fatāwā al-Ḥaramayn bi Rajafī Nadwatū'l Mayn*
10. *Fatāwā al-Āfriqah*
11. *Sub'ḥān as-Subbūḥ án Áybi Kadhib Maqbūḥ*
12. *Radd al-Rifḍah*
13. *Qahr ad-Dayyān álā Murtadd bi-Qādiyān*
14. *Niým al-Zād li Rawm al-Ḍād*
15. *Zubdah al-Zakiyyah li Taḥrīmi Sujūd al-Taḥiyyah*
16. *Kifl al-Faqīh al-Fāhim fī Aḥkāmi Qirtās al-Darāhim*
17. *Jalī an-Naşṣ fī Amākin al-Rukhaş*
18. *Barakāt al-Imdād li Ahl al-Istimdād*
19. *Zahr al-Bāsim fī Ḥurmati'z Zakāh álā Banī Hāshim*
20. *Masayil e Samāá*
21. *Zulāl al-Anqā min Baḥri Sabqah al-Atqā*
22. *Madārij Ṭabaqāt al-Ḥadīth*

⁶ Passed away in 1252/1836.

- 23. *Rawd al-Bahīj fī Ādāb al-Takhrij***
- 24. *Hād al-Kāf fī Ḥukm al-Ḍiāāf***
- 25. *Nahy al-Akīd ʻan al-Ṣalāti Warāʼa Ídā al-Taqlīd***

He took the Qādirī path and was initiated in that Sūfi order by Sayyid Aāl e Rasūl al-Āhmadi⁷ of Mārahra in 1294.⁸ Alahazrat was an ardent lover of the Prophet ﷺ which is evident from his works. He was also a great poet and has written sublime verse in Arabic, Persian and Urdu. His verse in Urdu and Persian is published in two parts named: *Ḩadāyiq e Bakhshish* meaning ‘Gardens of Salvation’. Many of his eulogies and odes are recited, and in particular, the Ode of Salutation or the *Salām* has achieved unparalleled fame and acceptance among Muslims from the subcontinent. The Imām passed away at the age⁹ of 68 in 1340 (1921). May Allah tāālā have mercy on him and be well pleased with him.



⁷ Passed away in 1296/1879. The shaykh was a prominent student of the famous scholar and Mujaddid of his age Shah Ábd al-Ázīz Muḥaddith al-Dihlawī.

⁸ Alahazrat himself points this out in a biographical note on his father Mawlānā Naqī Álī Khān, in the preface of his father’s book *Shar̄h A-lam Nashrah*, that he (Alahazrat) received bayāh and khilāfah on the 5th of Jumādā al-Ūlā 1294/1877 along with his father.

⁹ His age according to the lunar calendar is 68 and the solar calendar is 65.

